



**(زمانہ جا لیت میں) جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں چلی جاتی، اور گھٹیا قسم کے کپڑے پہنتی، وہ نہ خوشبو لگاتی اور نہ ہی زیب و زینت کی کوئی اور چیز استعمال کرتی یہاں تک کہ (اسی حالت میں) ایک سال گزر جاتا پھر کسی جانور - گدھے، یا پرندے یا بکری - کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ اس کے ساتھ اپنا جسم رگڑتی!**

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی: اے اللہ کے رسول! میری بیٹی کا خاوند وفات پا گیا ہے اور اس کی آنکھ دکھتی ہے، کیا تم اس کی آنکھ میں سر مل لگا سکتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں، آپ نہ ایسا دو یا تین دفعہ کہے، اور پھر فرمایا: ”یہ صرف چار ماہ اور دس دن ہیں زمانہ جا لیت میں تو تم عورتیں سال کے اختتام پر مینگی پہینکا کرتی تھیں“ زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: (زمانہ جا لیت میں) جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں چلی جاتی، اور گھٹیا قسم کے کپڑے پہنتی، وہ نہ خوشبو لگاتی اور نہ ہی زیب و زینت کی کوئی اور چیز استعمال کرتی یہاں تک کہ (اسی حالت میں) ایک سال گزر جاتا پھر کسی جانور - گدھے، یا پرندے یا بکری - کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ (عدت سے باہر آنے کے لیے) اس کے ساتھ اپنا جسم رگڑتی ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ جس سے اپنا جسم رگڑتی تھی وہ مر نہ جائے! پھر وہ باہر آتی اور اسے ایک مینگی دی جاتی جس سے وہ پہینکتی اس کے بعد وہ خوشبو یا جو بھی شے چاہتی استعمال کرتی۔

[صحیح] [متفق علیہ]

اسلام نہ آ کر لوگوں کو بار جا لیت سے چھٹکارا دلایا، خاص طور پر عورت کو زمانہ جا لیت میں لوگ عورت کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے اور اس پر ظلم ڈھاتے تھے چنانچہ اسلام نہ عورت کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ ایک عورت نبی ﷺ سے ایک مسئلے میں شرعی حکم دریافت کرنے کے لئے آئی اس نے آپ ﷺ کو بتایا کہ اس کی بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ اس کی وفات پر سوگ میں بیٹھی ہے سوگ میں بیٹھی عورت زیب و زینت سے گریز کرتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں درد ہے تو کیا اس کے لیے سرمے استعمال کرنے کی رخصت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں آپ ﷺ نہ بطور تاکید بار بار ایسا فرمایا پھر آپ ﷺ نے اس مدت میں کمی فرما دی جس میں عورت کا اپنے خاوند کی حرمت کے پیش نظر سوگ میں بیٹھنا ضروری ہے، اور وہ چار ماہ اور دس دن ہیں تو کیا وہ اس تھوڑی سی مدت بھی صبر نہیں کر سکتی جس میں کچھ آسانی ہے حالانکہ زمانہ جا لیت میں عورتوں کا یہ حال تھا کہ تم میں سے جو عورت سوگ میں ہوتی وہ جنگلی جانور کی بل کی طرح کے ایک چھوٹے سے گھر میں گھس جاتی اور زیب و زینت، خوشبو، پانی کے استعمال اور لوگوں کے ساتھ میل جول سے گریز کرتی تھی اس کی وجہ سے اس پر تڑپنے اور کچیل اور گندگیاں جم جاتیں وہ پورے ایک سال لوگوں سے الگ تھلگ رہتی جب اس سے وہ فارغ ہوتی تو اسے ایک مینگی دی جاتی جس سے وہ پہینک دیتی ہے اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس پر جو تنگی و سختی اور پریشانی آئی ہے وہ خاوند کے حق کے مقابلے میں اس مینگی کے بھی برابر نہیں اسلام نہ آ کر اس سختی کو ان کے لیے نعمت اور تنگی کو کشادگی میں بدل دیا کیا اب وہ اپنی آنکھ میں سرمے لگانے سے صبر نہیں کر سکتی چنانچہ اس کے لیے کوئی رخصت نہیں تاکہ وہ سوگ پر بیٹھی عورت کے لیے اس کی وجہ سے زیب و زینت کا دروازہ نہ کھل جائے۔



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

